

## آل دیوبند سے دوسو دس (۲۱۰) سوالات

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

بعض آل دیوبند کی طرف سے اہل حدیث کے سامنے سوالات ہی سوالات پیش کئے جاتے ہیں اور یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے جوابات دو۔ ماسٹر امین اوکاڑوی دیوبندی (حیاتی) نے دوسو سوالات کا ایک کتابچہ لکھا تھا لہذا اہل حدیث کی طرف سے تمام تقلیدی دیوبندیوں کی ”جناب“ میں دوسو دس (۲۱۰) سوالات پیش خدمت ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جن کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے۔

ہر اہل حدیث بھائی کو چاہئے کہ اگر تقلیدی حضرات اُس سے سوالات کریں تو وہ بھی اُتے ہی سوالات پیش کرے جتنے وہ حضرات پیش کرتے ہیں۔

۱) حاجی امداد اللہ تھانہ بھونوی نے لکھا ہے:

”اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے“ (کلیات امداد یہ ص ۳۶)

یہ کہنا کہ بندہ باطن میں خدا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟

۲) دیوبندیوں کے پیر کا یہ کہنا کہ ”اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے“ کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟

۳) یہ کہنا کہ ”اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے“ کیا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح ثابت ہے؟ مستند حوالہ پیش کریں۔

۴) حاجی امداد اللہ نے لکھا ہے:

”اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہئے کہ خود مذکور

یعنی (اللہ) ہو جائے“ (کلیات امداد یہ ص ۱۸)

ذکر کرنے والے کا اللہ ہو جانا کس آیت سے ثابت ہے؟

۵) ذکر کرنے والے کا اللہ ہو جانا کس حدیث سے ثابت ہے؟

۶) ذکر کرنے والے کا اللہ ہو جانا، امام ابوحنیفہ کے کس مفتیٰ بہ صحیح قول سے ثابت ہے؟

۷) حاجی امداد اللہ نے نبی کریم ﷺ کو مخاطب کر کے لکھا ہے:

”اے مرے مشکل کشا فریادے،“ (کلیات امداد ص ۹۱)

نبی ﷺ کو مشکل کشا سمجھنا کس آیت کریمہ سے ثابت ہے؟

۸) رسول اللہ ﷺ کو مشکل کشا سمجھنا کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟

۹) نبی کریم ﷺ کو مشکل کشا سمجھنا امام ابوحنیفہ کے کس ثابت شدہ قول سے ثابت ہے؟

۱۰) امداد اللہ نے لکھا ہے:

”مری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ“ (کلیات امداد ص ۲۰۵)

قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کشتیوں کو کنارے پر لگاتے ہیں؟

۱۱) کس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کشتیوں کو کنارے پر رسول اللہ ﷺ لگاتے ہیں؟

۱۲) کیا امام ابوحنیفہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کشتیوں کو کنارے پر

لگاتے تھے؟

۱۳) حاجی امداد اللہ نے علانیہ لکھا ہے:

”مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے“

(شائم امداد ص ۳۲، کلیات امداد ص ۲۱۸)

قرآن مجید کی کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ صوفیوں مثلاً ابن عربی وغیرہ کا عقیدہ

وحدت الوجود حق و صحیح ہے؟

۱۴) عقیدہ وحدت الوجود کا حق و صحیح ہونا کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟

۱۵) کیا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح مروجہ عقیدہ وحدت الوجود کا حق ہونا ثابت ہے؟

۱۶) حاجی امداد اللہ اپنے پیر نور محمد گھنچھانوی کو مخاطب کر کے کہتے تھے:

”آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا“

(شائم امداد یہ ص ۸۳، ۸۴، امداد المشفق فقرہ: ۲۸۸)

یہ کہنا کہ دنیا میں آسرا صرف نور محمد جھنجھانوی کا ہے، قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟  
 (۱۷) دنیا اور میدانِ حشر دونوں میں نور محمد جھنجھانوی سے امداد طلب کرنا کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۸) کیا یہ عقیدہ امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں پیر نور محمد جھنجھانوی کا دامن پکڑ کر ان سے امداد مانگنی چاہئے؟

(۱۹) سورة الذریت کی آیت: ۲۱ کے ترجمے میں تحریف کرتے ہوئے حاجی امداد اللہ نے لکھا: ”خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو۔“ (کلیات امداد یہ ص ۳۱)  
 یہ کہنا کہ ”خدا تم میں ہے“ کس صحابی کا عقیدہ تھا؟

(۲۰) یہ کہنا کہ ”خدا تم میں ہے“ کیا امام ابوحنیفہ سے یہ عقیدہ باسند صحیح ثابت ہے؟  
 (۲۱) بانی مدرسہ دیوبند محمد قاسم نانوتوی نے کہا:

”بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ (تذیر الناس ص ۸۵ واللفظ لہ، دوسرا نسخہ ص ۳۴)

یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۲۲) یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۲۳) یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہ آئے گا، امام ابوحنیفہ کے کس مفتی بہ قول سے یہ عقیدہ ثابت ہے؟

(۲۴) محمد قاسم نانوتوی نے رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر کہا:

”مدد کرے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار“

(قصائد قاسمی، قصیدہ بہاریہ در نعت رسول اللہ ﷺ ص ۸، عقائدِ حقہ ص ۴، از زاہد الحسنی)

رسول اللہ ﷺ کو مدد کے لئے پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کے سوا نانوتوی بیکس

(بے یار و مددگار، محتاج) کا کوئی بھی حامی کار نہیں ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۲۵) رسول اللہ ﷺ کو مدد کے لئے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ رسول کے سوا نانوتوی کا کوئی

بھی حامی کار (گرم جوشی سے حمایت یا مدد کرنے والا) نہیں ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۲۶) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو مدد کے لئے پکارنا چاہئے اور

آپ کے سوا کوئی بھی حامی کار نہیں ہے؟

(۲۷) قاسمی نانوتوی نے کہا:

”دلیل اس دعوے کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی اُمت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی

میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر اُمتی مساوی ہو

جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں“ (تخذیر الناس ص ۴۷، دوسرا نسخہ ص ۷)

یہ عقیدہ کہ اُمتی عمل میں انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۲۸) یہ عقیدہ کہ عمل میں انبیاء سے اُمتی بڑھ جاتے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۲۹) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء سے عمل میں اُمتی بڑھ جاتے ہیں؟

(۳۰) محمد قاسم نانوتوی نے کہا:

”ارواح انبیاء کرام علیہم السلام کا اخراج نہیں ہوتا فقط مثل نور چراغ اطراف و

جوانب سے قبض کر لیتے ہیں اور سوان کے اوروں کی ارواح کو خارج کر دیتے

ہیں“ (جمال قاسمی ص ۱۵، تسکین الصدور ص ۲۱۶ واللفظ لہ)

یہ کہنا کہ وفات کے وقت انبیاء کی ارواح کا اخراج نہیں ہوتا تھا، کس آیت سے ثابت ہے؟

- ۳۱) وفات کے وقت نبی کی روح کا عدم اخراج کس حدیث سے ثابت ہے؟
- ۳۲) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وفات کے وقت نبی کی روح کا اخراج نہیں ہوتا تھا؟
- ۳۳) قاسم نانوتوی نے کہا:

”رجاؤ خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ جو تو ہی ہاتھ لگائے تو ہووے بیڑا پار“  
(قصائد قاسمی ص ۹)

- یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ ناؤ (کشتی) پار لگاتے ہیں، کس آیت سے ثابت ہے؟
- ۳۴) یہ عقیدہ کہ نبی ﷺ کشتی کو پار لگاتے ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟
- ۳۵) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی ﷺ کشتی کو پار لگاتے ہیں؟
- ۳۶) قاسم نانوتوی صاحب اگر اکیلے کسی مزار (قبر) پر جاتے، اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے کہ ”آپ میرے واسطے دعا کریں“ (سوانح قاسمی ج ۲ ص ۲۹) قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟
- ۳۷) نانوتوی کا قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟
- ۳۸) کیا امام ابوحنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے؟
- ۳۹) قاسم نانوتوی نے ایک دفعہ شیعوں سے نبی کریم ﷺ کی بیداری میں زیارت کے بارے میں کہا:

”تم سب اس پر پختہ رہو، تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لئے تیار ہوں“  
(سوانح قاسمی ج ۱ ص ۳۱۸)

- نبی ﷺ کی وفات کے بعد بیداری میں آپ کی زیارت کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟
- ۴۰) رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد شیعوں کو آپ کی زیارت کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

- ۴۱) کیا امام ابوحنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ لوگوں کو، بیداری میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کراتے تھے؟

(۴۲) رشید احمد گنگوہی نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے لکھا:

”اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔“

(مکاتیب رشیدیہ ص ۱۰، فضائل صدقات حصہ دوم ص ۵۵۶)

یہ کہنا کہ وہ جو تو (اللہ) ہے وہ میں (رشید احمد گنگوہی) ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۴۳) یہ کہنا کہ وہ جو اللہ ہے وہ گنگوہی ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۴۴) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ جو اللہ ہے وہ گنگوہی ہے؟

(۴۵) ضامن علی جلال آبادی نے ایک زانیہ عورت سے، زنا کے بارے میں کہا:

”بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے“

(تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۴۲)

اس ضامن علی کے بارے میں گنگوہی نے مسکرا کر کہا:

”ضامن علی جلال آبادی تو تو حید ہی میں غرق تھے“ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۴۲)

ایسے آدمی کو تو حید میں غرق قرار دینا، جو یہ سمجھتا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا تو وہی

(اللہ) ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۴۶) ایسے آدمی کو تو حید میں غرق سمجھنا جو یہ کہتا تھا کہ کرنے والا اور کرانے والا تو وہی ہے،

کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۴۷) کیا امام ابوحنیفہ بھی ایسے آدمی کو مسکرا کر تو حید میں غرق سمجھتے تھے، جو یہ کہتا تھا کہ

کرنے والا اور کرانے والا تو وہی ہے؟

(۴۸) رشید احمد گنگوہی نے کہا:

”نیز مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہئے کہ شیخ کی رُوح کسی خاص جگہ میں مقید و

محدود نہیں ہے۔ پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گو شیخ کے جسم سے

دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔“ (امداد السلوک اردو ص ۶۴)

یہ کہنا کہ شیخ کی رُوح ہر جگہ مرید کے ساتھ ہوتی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

- (۴۹) یہ سمجھنا کہ شیخ کی رُوح ہر جگہ مرید کے ساتھ ہوتی ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟
- (۵۰) یہ عقیدہ رکھنا کہ شیخ کی رُوح ہر جگہ مرید کے ساتھ ہوتی ہے، کیا امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے؟
- (۵۱) گنگوہی نے کہا:

”پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل وعلیٰ ہے“

(تالیفات رشیدیہ ص ۹۹)

- کیا امکان کذب باری تعالیٰ کا عقیدہ صراحاً قرآن مجید میں ہے؟
- (۵۲) کیا امکان کذب باری تعالیٰ کا عقیدہ صراحاً کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟
- (۵۳) کیا امام ابوحنیفہ سے صراحاً امکان کذب باری تعالیٰ کا عقیدہ ثابت ہے؟
- (۵۴) رشید احمد گنگوہی نے کئی مرتبہ کہا:

”سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر“

(تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۷)

- یہ کہنا کہ حق وہی ہے جو گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے اور گنگوہی کے زمانے میں ہدایت و نجات صرف اسی کی اتباع پر موقوف ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟
- (۵۵) گنگوہی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی حق ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟
- (۵۶) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حق وہی ہے جو گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے؟
- (۵۷) گنگوہی نے وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے پیر حاجی امداد اللہ کی بیعت کی تھی۔

دیکھئے تذکرۃ الرشید (ج ۱ ص ۴۶)

- قرآن مجید کی کس آیت سے ثابت ہے کہ وحدت الوجودی پیر کی بیعت کرنی چاہئے؟
- (۵۸) وہ کون سی صحیح حدیث ہے جس سے وحدت الوجودی پیر کی بیعت کا ثبوت ملتا ہے؟
- (۵۹) امام ابوحنیفہ نے کس (وحدت الوجودی) پیر کی بیعت کی تھی؟

۶۰ گنگوہی نے سکھوں کے گرو نانک کے بارے میں کہا:

”شاہ نانک جنکو سکھ لوگ بہت مانتے ہیں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں چونکہ اہل جذب سے تھے اسوجہ سے انکی حالت مشتبہ ہوگئی مسلمانوں نے کچھ انکی طرف توجہ نہ کی سکھ اور دوسری قومیں کشف و کرامات دیکھکر انکو ماننے لگے۔“ (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۳۲)

گرو نانک کے کشف و کرامات کا ثبوت کس مفتی بہ دلیل سے ہے؟

۶۱ رشید احمد گنگوہی نے ایک دن جوش میں کہا:

”کہ (اتنے) سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کی۔“ (ارواح ثلاثہ ص ۳۰۸، حکایت نمبر ۷۷۰)

یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کئی سال گنگوہی کے دل میں رہے اور گنگوہی نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی؟

۶۲ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نبی ﷺ کے بارے میں کہا:

”اور میرے نزدیک اصل وجہ یہ ہے کہ آپ پر ذوق و شوق کی حالت غالب ہوتی تھی جس میں یہ جہر واقع ہو جاتا تھا اور جب کہ آدمی پر غلبہ ہوتا ہے تو پھر اسکو خبر نہیں رہتی کہ کیا کر رہا ہے“ (تقریر ترمذی از تھانوی ص ۷۱)

قرآن مجید کی کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ جب نبی ﷺ حالت نماز میں بعض آیتیں جہراً تلاوت فرماتے تھے تو اس وقت ذوق و شوق کی حالت غالب ہونے کی وجہ سے آپ کو خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟

۶۳ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ﷺ کو حالت نماز میں خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟

۶۴ کیا امام ابو حنیفہ سے یہ مفتی بہ قول ثابت ہے کہ نبی ﷺ کو حالت نماز میں خبر نہیں رہتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟



۶۵) تھانوی نے رسول اللہ ﷺ کو پکارتے ہوئے کہا:

”دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی میرے نبی“ (نشر الطیب ص ۱۹۴)

یہ سمجھنا کہ کشمکش میں نبی ﷺ ہی دستگیری فرماتے ہیں اور مدد کے لئے آپ کو پکارنا

کس آیت سے ثابت ہے؟

۶۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ﷺ ہی کشمکش میں دستگیری فرماتے ہیں، کس حدیث سے ثابت

ہے؟

۶۷) یہ کہنا کہ نبی ﷺ ہی کشمکش میں دستگیری فرماتے ہیں اور مدد کے لئے آپ کو پکارنا،

کیا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح ثابت ہے؟

۶۸) اشرف علی تھانوی نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا کہ وہ اپنے پیر کے مرنے کے بعد اُس

کی قبر پر گیا اور کہا: ”حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کو محتاج ہوں کچھ دستگیری

فرمائیے۔“ پھر اسے قبر سے روزانہ دو آنے یا آدھ آنہ ملا کرتا تھا (!)

تھانوی نے کہا: ”یہ منجملہ کرامات کے ہے ۱۲“ (مداد المشتاق ص ۱۱۷، فقرہ: ۲۹۰، دوسرا نسخہ ص ۱۲۳)

پیر کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر مدد مانگنا کس آیت سے ثابت ہے؟

۶۹) پیر کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر جا کر مدد مانگنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

۷۰) کیا امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے ”پیر“ کی قبر پر جا کر روٹیاں اور مدد مانگتے تھے؟

۷۱) اشرف علی تھانوی نے عبد اللہ خان نامی ایک شخص کے بارے میں لکھا:

”ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما

دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا۔ اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا

تھا۔“ (حکایات اولیاء عرف ارواح ثلاثہ ص ۱۸۲، ۱۸۵، حکایت نمبر ۱۴۷)

یہ کہنا کہ عبد اللہ خان کو معلوم تھا کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا، کس آیت سے ثابت ہے؟

۷۲) یہ عقیدہ رکھنا کہ عبد اللہ خان جانتا تھا کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۷۳) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں شخص جانتا ہے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا اور اسی طرح

ہوتا ہے؟

(۷۴) اشرف علی تھانوی نے نبی ﷺ کے علم کا ذکر کر کے لکھا:

”اگر بعض علومِ غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے ایسا علمِ غیب زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“ (حفظ الایمان ص ۱۳، دوسرا نسخہ ص ۱۱۶)

یہ کہنا کہ نبی ﷺ کے پاس (وحی کے ذریعے سے) جو بعض علمِ غیب تھا، ایسا علمِ غیب بچوں، پاگلوں اور حیوانوں کے پاس بھی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۷۵) یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ﷺ کے پاس (وحی کے ذریعے سے) جو بعض علمِ غیب تھا، ایسا علمِ غیب تو بچوں، پاگلوں اور حیوانوں کے پاس بھی ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۷۶) کیا امام ابوحنیفہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس (وحی کے ذریعے سے) جو بعض علمِ غیب تھا، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور حیوانوں کے پاس بھی ہے؟

(۷۷) ایک شخص کا جب بچہ پیدا ہوتا تو تین مرتبہ حق حق کہہ کر مرجاتا تھا، تھانوی نے احمد عبدالحق ردولوی سے نقل کیا کہ اس نے کہا:

”اچھا اب جو بچہ پیدا ہوگا، وہ زندہ رہے گا، چنانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوا، اس نے حق حق نہیں کہا اور وہ زندہ رہا...“ (قصص الاکابر ص ۱۰، قبل فقرہ نمبر ۱)

یہ کس آیت سے ثابت ہے کہ ردولوی (یا کسی پیر) کو یہ علم ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا؟

(۷۸) یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ ردولوی (یا کسی پیر) کو یہ علم ہوتا تھا یا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا؟

(۷۹) کیا امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے کہ امتیوں میں سے کسی کو یہ علم ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا؟

(۸۰) ایک شخص نے ایک شیطانی خواب دیکھا، جس میں اُس نے کلمہ طیبہ غلط پڑھا اور بعد

میں بیدار ہونے کے بعد بے اختیاری سے کہا:

”اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی“

تو اشرف علی تھانوی نے اس شخص کو جواب دیا: ”اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع

کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔“ (الامداد عدد ۸ جلد ۳، ماہ صفر ۱۳۳۶ھ ص ۳۵)

کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے کہ متبع سنت اُمتی کونبی کہنا صحیح ہے؟

(۸۱) کیا امام ابوحنیفہ سے متبع سنت کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ نبی ہوتا ہے؟

(۸۲) خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے کہا:

”الحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو

خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان

کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی

کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے...“

(براہین قاطعہ بجواب انوار ساطعہ ص ۵۵)

سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی نص قطعی ہے جس سے شیطان اور ملک الموت کے

لئے علم محیط زمین (ساری زمین کا احاطہ کرنے والا علم) ثابت ہوتا ہے؟

(۸۳) وہ کون سی صحیح حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس ساری زمین

کا احاطہ کرنے والا علم ہے؟

(۸۴) امام ابوحنیفہ کا وہ کون سا قول ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس

ساری زمین کا احاطہ کرنے والا علم ہے؟

(۸۵) خلیل احمد سہارنپوری انپٹھوی نے کہا:

”اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض

پہنچنا سو بیشک صحیح ہے مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے نہ اس طرز سے

جو عوام میں رائج ہے۔“ (المہند علی المفسد ص ۳۹، جواب سوال نمبر ۱۱، دوسرا نسخہ ص ۲۲۷)

قبروں سے خواص کو باطنی فیض پہنچنا کس آیت سے ثابت ہے؟

۸۶) قبروں سے خواص کو باطنی فیض پہنچنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

۸۷) قبروں سے اس کے اہل اور خواص کو باطنی فیض پہنچنا امام ابوحنیفہ کے کس قول سے

ثابت ہے؟

۸۸) خلیل احمد دیوبندی نے کہا:

”جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بجز اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرات امام ہمام امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے، اور اصول و اعتقادات میں پیرو ہیں امام ابوالحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے اور طریقہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشتیہ اور سلسلہ بیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مریضہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ“ (المہند علی المفند ص ۲۳، ۲۴، دوسرا نسخہ ص ۲۱۲، ۲۱۳)

قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فروع میں امام ابوحنیفہ کا مقلد ہونا چاہئے اور اصول و اعتقادات (عقائد) میں اشعری اور ماتریدی کا مقلد ہونا چاہئے؟ اور ساتھ ساتھ نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی وغیرہ سلسلہ ہائے تصوف میں بھی شامل ہونا چاہئے؟

۸۹) وہ کون سی حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فروع میں امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے لیکن اصول و عقائد میں امام ابوحنیفہ کی تقلید نہیں کرنی چاہئے بلکہ اشعری اور ماتریدی کا مقلد ہونا چاہئے؟

۹۰) امام ابوحنیفہ کا وہ قول کہاں لکھا ہوا ہے جس میں انھوں نے فرمایا تھا کہ اصول و عقائد میں میری تقلید نہ کرنا بلکہ میرے بعد پیدا ہونے والے اشعری اور ماتریدی کی تقلید کرنا؟

۹۱) خلیل احمد انیٹھوی نے رسول اللہ ﷺ کی حیات کے بارے میں لکھا:

”اور آپ کی حیات دُنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے اور یہ حیات مخصوص ہے آں حضرت“

اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو...“ (المہد علی المفند ص ۳۲، دوسرا نسخہ ص ۲۲۱)

یہ کہنا کہ قبر میں رسول اللہ ﷺ کی حیات دُنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے۔ کس آیت سے ثابت ہے؟

۹۲) یہ کہنا کہ قبر میں رسول اللہ ﷺ کی حیات دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے کس حدیث سے ثابت ہے؟

۹۳) یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر میں رسول اللہ ﷺ کی حیات (زندگی) دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟

۹۴) خلیل احمد نے کہا:

”اور ہمارے متاخرین اماموں نے ان آیات میں جو صحیح اور لغت و شرع کے اعتبار سے جائز تاویل میں فرمائی ہیں تاکہ کم فہم سمجھ لیں مثلاً یہ کہ ممکن ہے استواء سے مراد غلبہ ہو اور ہاتھ سے مراد قدرت تو یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔“ (المہد علی المفند ص ۴۲، دوسرا نسخہ ص ۲۳۰)

امام ابو حنیفہ کا وہ ثابت شدہ قول کہاں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء سے مراد غلبہ ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے؟

۹۵) کیا خلفائے راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے استواء سے مراد غلبہ ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے؟

۹۶) کیا قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم سے باسند صحیح یہ ثابت ہے کہ استواء سے مراد غلبہ ہے اور اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے؟

۹۷) خلیل احمد سہارنپوری نے رشید احمد گنگوہی دیوبندی کی بیعت کی تھی حالانکہ گنگوہی نہ امیر تھے اور نہ مامور۔ دیکھئے تذکرۃ الخلیل (ص ۷۲، ۷۳)

کیا امام ابو حنیفہ سے ایسی صوفیانہ بیعت کا باسند صحیح کوئی ثبوت ہے؟

۹۸) کیا قاضی ابو یوسف نے کسی صوفی کی بیعت کی تھی؟

۹۹) خلیل احمد سہارنپوری انیٹھوی دیوبندی نے کہا:

”ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا تو شل جائز ہے۔ اُن کی حیات میں یا بعد وفات، بایں طور کہ کہیے یا اللہ میں بوسیہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دُعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں“

(المہند علی المفند ص ۳۱، دوسرا نسخہ ص ۲۲۰)

وہ کون سی آیت ہے جس میں بزرگ کی وفات کے بعد، اللہ کے دربار میں اُس کی

ذات کے وسیلے سے دعا مانگنے کا ثبوت ہے؟

۱۰۰) کیا امام ابوحنیفہ بھی اپنی دعا میں فوت شدہ بزرگ کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟

۱۰۱) محمود حسن دیوبندی نے رشید احمد گنگوہی کے مرنے پر کہا:

”زبان پراہل اہوا کی ہے کیوں اعلیٰ سہیل شاید

اٹھا عالم سے کوئی بانی اسلام کا ثانی“ (مرثیہ ص ۵، کلیات شیخ الہند ص ۸۷)

قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو رشید احمد گنگوہی تھا وہ بانی اسلام کا ثانی تھا؟

۱۰۲) وہ کون سی حدیث ہے جس میں گنگوہی کو بانی اسلام کا ثانی لکھا ہوا ہے؟

۱۰۳) کیا امام ابوحنیفہ بھی گنگوہی (یا اُس جیسے لوگوں) کو بانی اسلام کا ثانی سمجھتے تھے؟

۱۰۴) محمود حسن نے کہا:

”لیکن سوائے امام اور کسیکے قول سے ہمپر حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے“

(ایضاح الادلہ ص ۶۲۷، مطبوعہ مطبع قاسمی دیوبند)

قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ کے قول

کے بغیر کسی اور کے قول سے حجت (دلیل) قائم کرنا بعید از عقل ہے؟

۱۰۵) کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ کے قول کے بغیر کسی دوسرے (مثلاً

نبی یا صحابی) کے قول سے حجت قائم کرنا بعید از عقل ہے؟

۱۰۶) کیا قاضی ابو یوسف کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ امام ابوحنیفہ کے قول کے بغیر کسی

دوسرے کے قول سے استدلال کرنا بعید از عقل ہے؟

(۱۰۷) محمود حسن دیوبندی نے کہا:

”آپ ہم سے وجوبِ تقلید کی دلیل کے طالب ہیں۔ ہم آپ سے وجوبِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ووجوبِ اتباعِ قرآنی کی سند کے طالب ہیں“

(ادلہ کاملہ مع تسہیل ادلہ ص ۷۸، نیز دیکھئے ایضاً الادلہ ص ۹۹)

کیا قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سے وجوبِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوبِ اتباعِ قرآنی کی سند کا مطالبہ کرنا چاہئے؟

(۱۰۸) کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے شخص کو مسلمان سے وجوبِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوبِ اتباعِ قرآنی کی سند کا مطالبہ کرنا چاہئے؟

(۱۰۹) کیا امام ابوحنیفہ اہل اسلام سے مباحثہ کرتے وقت وجوبِ اتباعِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور وجوبِ اتباعِ قرآنی کی سند کا مطالبہ کرتے تھے؟

(۱۱۰) محمود حسن دیوبندی نے اپنے شیخ (شہید احمد گنگوہی کو، اُس کے مرنے کے بعد مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”رہے منہ آپ کی جانب تو بعد ظاہری کیا ہے

ہمارے قبلہ و کعبہ ہو تم دینی و ایمانی“ (مرثیہ ص ۱۲، کلیات شیخ الہند ص ۹۰)

یہ کہنا کہ گنگوہی دینی و ایمانی قبلہ و کعبہ تھا، کس آیت سے ثابت ہے؟

(۱۱۱) یہ عقیدہ رکھنا کہ گنگوہی دیوبندی دینی و ایمانی قبلہ و کعبہ تھا، کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۱۲) کیا امام ابوحنیفہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ گنگوہی دیوبندی نامی شخص دینی و ایمانی قبلہ و کعبہ تھا؟

(۱۱۳) محمود حسن نے اپنے کسی پسندیدہ آدمی کے لئے کہا:

”مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا

اس مسیانی کو دیکھیں ذری ابن مریم“ (کلیات شیخ الہند ص ۷۰، مرثیہ ص ۲۳)  
 کیا کسی آیت سے ثابت ہے کہ فلاں شخص مثلاً گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ  
 مُردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا؟

۱۱۴) کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ فلاں شخص مثلاً گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار  
 ہوتا ہے کہ مُردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا؟

۱۱۵) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فلاں شخص مثلاً گنگوہی وغیرہ کے پاس یہ اختیار  
 ہوتا ہے کہ مُردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا؟  
 محمود حسن دیوبندی نے کہا:

”الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلة و نحن مقلدون  
 یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفة واللہ اعلم“

حق اور انصاف یہ ہے کہ اس مسئلے میں شافعی کو ترجیح حاصل ہے اور ہم مقلدین ہیں، ہم پر  
 اپنے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ واللہ اعلم (التقریر لترمذی ص ۳۶)

قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق و انصاف معلوم  
 ہونے اور تسلیم کرنے کے باوجود امام ابوحنیفہ کی تقلید کرنی چاہئے اور حق و انصاف کو چھوڑ دینا  
 چاہئے؟

۱۱۷) وہ حدیث کہاں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حق و انصاف پر عمل کرنے کے  
 بجائے اپنے خود ساختہ امام کی تقلید واجب ہے؟

۱۱۸) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حق و انصاف کے بجائے اپنے خود ساختہ امام کی  
 تقلید ضروری ہے؟

۱۱۹) محمود حسن دیوبندی نے کہا:

”کیونکہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ ﷺ ہی شمار ہوتا ہے۔“

(تقریر شیخ الہند ص ۲۴، الورد الشذی علی جامع الترمذی ص ۲)



قرآن مجید کی کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ ﷺ ہی شمار ہوتا ہے؟

۱۲۰) کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ ﷺ ہی شمار ہوتا ہے؟

۱۲۱) کیا امام ابوحنیفہ سے یہ ثابت ہے کہ قول مجتہد بھی قول رسول اللہ ﷺ ہی شمار ہوتا ہے؟

۱۲۲) حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے سیدنا عبادہ بن الصامت البدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا: ”کیونکہ بعض کے راوی عبادہ ہیں جو مدلس ہیں“

(توضیح الترمذی ج ۱ ص ۴۳۷، طبع مدنی مشن بک ڈپو۔ مدنی نگر، کلکتہ۔ ۵۱)

یہ کہنا کہ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ مدلس تھے، کسی حدیث یا اسماء الرجال سے ثابت ہے؟

۱۲۳) کیا سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کو امام ابوحنیفہ مدلس سمجھتے تھے؟

۱۲۴) کیا سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کو قاضی ابو یوسف مدلس سمجھتے تھے؟

۱۲۵) حسین احمد ٹانڈوی نے کہا: ”قومیں نسل مذہب وطن پیشوں وغیرہ سے بنتی ہیں“

(مکتوبات [دیوبندی] شیخ الاسلام ج ۲ ص ۳۰۹ مکتوب: ۱۲۳)

ٹانڈوی نے مزید کہا:

”ہمارے زمانے میں قومیں وطنوں سے بنتی ہیں۔ تمام باشندگان ہند خواہ ہندو ہوں یا

مسلمان، سبکھ ہوں یا پارسی یا عیسائی بیرونی طاقتوں کے مقابلہ میں ایک قوم ہیں“

(حیات شیخ الاسلام ص ۱۱۲، ۱۱۳، تصنیف محمد میاں دیوبندی)

عرض ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۲۶) قومیں وطن سے بنتی ہیں، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۲۷) کیا امام ابوحنیفہ یہ کہتے تھے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں؟

۱۲۸) حسین احمد دیوبندی نے قصیدہ بردہ کا ایک شعر بطور حجت نقل کیا:

”یا اشرف الخلق مالی من الودبه سواك عند حلول الحادث العمم  
اے افضل مخلوقات میرا کوئی نہیں جسکی پناہ پکڑوں بجز تیرے بروقت نزول حوادث“

(الشہاب الثاقب ص ۶۶، دوسرا نسخہ ص ۲۴۵)

یہ عقیدہ رکھنا کہ حوادث (حادثات اور مصیبتوں) میں رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی  
پناہ نہیں! کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۲۹) یہ سمجھنا کہ حادثات اور مصیبتوں میں رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی پناہ نہیں! کس  
حدیث سے ثابت ہے؟

۱۳۰) یہ کہنا کہ حادثات میں رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی پناہ نہیں! امام ابوحنیفہ کے کس  
قول سے ثابت ہے؟

۱۳۱) حسین احمد نے محمد قاسم نانوتوی کا قول نقل کیا جس میں رسول اللہ ﷺ کو مدد  
کے لئے پکارا گیا ہے:

”مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار  
جو تو ہی ہمکو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خوار“

(الشہاب الثاقب ص ۶۶، دوسرا نسخہ ص ۲۴۵)

یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نہ پوچھیں تو کون پوچھے گا اور کون غم خوار ہوگا، کس آیت سے  
ثابت ہے؟

۱۳۲) یہ سمجھنا کہ اگر رسول اللہ ﷺ نہ پوچھیں تو کون پوچھے گا اور کون غم خوار ہوگا، کس  
حدیث سے ثابت ہے؟

۱۳۳) کیا امام ابوحنیفہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات کے بعد بھی  
پوچھتے ہیں اور مددگار ہوتے ہیں؟

۱۳۴) حسین احمد ٹانڈوی نے کہا:

”دور کردل سے حجاب جہل و غفلت میرے اب

کھول دے دل میں دَرِ علمِ حقیقت میرے اب  
 ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے“ (سلاسل طیبہ مع چند مجرب عملیات ص ۱۴)  
 سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنا کس آیت سے ثابت ہے؟  
 (۱۳۵) سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا اور آپ کے وسیلے سے دعا کرنا کس حدیث سے  
 ثابت ہے؟

(۱۳۶) کیا امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں اور آپ کے وسیلے سے دعا  
 مانگنی چاہئے؟

(۱۳۷) حسین احمد ٹانڈوی چشتی فیض آبادی نے لکھا ہے:

”چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ والصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ  
 کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفریں اس نداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا  
 استہزاء اُڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان  
 دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و نداء کیوں نہ ہوں  
 مستحب و مستحسن جانتے ہیں“ (الشہاب الثاقب ص ۶۵، دوسرا نسخہ ص ۲۴۴)

رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں آپ کو بصیغہ خطاب و نداء  
 پکارنا کس آیت سے مستحب و مستحسن ثابت ہوتا ہے؟

(۱۳۸) رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی وفات کے بعد آپ کی غیر حاضری میں والصلوة والسلام  
 علیک یا رسول اللہ کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۳۹) کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو بصیغہ خطاب و نداء  
 پکارتے تھے؟

(۱۴۰) حسین احمد ٹانڈوی صاحب کرم داس گاندھی کی پارٹی کانگریس میں شامل تھے۔

حوالے کے لئے دیکھئے فرید الوحیدی دیوبندی کی کتاب ”حسین احمد مدنی“ (ص ۳۷۵)

ہندوؤں کی پارٹی کانگریسی میں بھرتی ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟

۱۴۱) محمد زکریا کاندھلوی دیوبندی تبلیغی نے کہا:

”اور بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے قریب ہیں جو طواف کر رہے ہوں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے“ (فضائل حج ص ۸۸۵/۱۱۱)

کس آیت سے یہ ثابت ہے کہ کعبہ خود بعض لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے؟

۱۴۲) کس حدیث سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں کی زیارت کو کعبہ خود جاتا ہے؟

۱۴۳) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ کعبہ بعض لوگوں کی زیارت کو خود جاتا ہے؟

۱۴۴) زکریا تبلیغی نے ایک غیر مستند کتاب روض الفائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں محمد بن عبد اللہ صاحب قرآن ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ تیرا باپ بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے“

(تبلیغی نصاب ص ۷۹، فضائل درود ص ۱۱۳)

قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتے ہیں جو آپ پر کثرت سے درود بھیجے؟

۱۴۵) وہ کون سی حدیث ہے جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ ﷺ اس شخص کی فریاد کو پہنچتے ہیں جو آپ پر کثرت سے درود بھیجے؟

۱۴۶) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتے ہیں جو آپ پر کثرت سے درود بھیجے؟

۱۴۷) زکریا تبلیغی نے بطور رضامندی اور تائید بعض اشعار کا ترجمہ لکھا ہے:

”رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے اے ختم المرسلین رحم فرمائیے“

(۲) آپ یقیناً رحمۃ للعالمین ہیں ہم حراما نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل

فرما سکتے ہیں...

(۱۱) عاجزوں کی دستگیری، بیکسوں کی مدد فرمائیے اور مخلص عشاق کی دلجوئی و دلداری کیجئے،

(تبلیغی نصاب ص ۸۰۶، فضائل درود ص ۱۲۸)

وہ کون سی آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ (اپنی وفات کے بعد)

عاجزوں کی دستگیری اور بیکسوں کی مدد فرماتے ہیں؟

(۱۴۸) وہ کون سی حدیث ہے جس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیکسوں کی مدد اور

عاجزوں کی دستگیری فرماتے ہیں؟

(۱۴۹) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ عاجزوں کی دستگیری اور بیکسوں

کی مدد فرماتے ہیں؟

(۱۵۰) ایک عورت مرگئی، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، پھر کیا ہوا؟

زکریا دیوبندی کے نقل کردہ الفاظ میں مرنے والی عورت کے بیٹے کے حوالے سے پیش خدمت

ہے: ”کہ تہامہ (حجاز) سے ایک ابر آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے اپنا مبارک

ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا جس وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل

جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو دور

کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔“

(تبلیغی نصاب ص ۷۹۳، ۷۹۴، فضائل درود ص ۱۱۵، ۱۱۶)

کس آیت سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ غیر عورتوں کے چہرے اور پیٹ پر (معاذ اللہ)

ہاتھ پھیرتے تھے؟

(۱۵۱) کس حدیث سے ثابت ہے کہ غیر عورتوں کے چہرے اور پیٹ پر نبی کریم ﷺ

اپنا ہاتھ پھیرتے تھے؟ (معاذ اللہ)

(۱۵۲) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی ﷺ امتیوں کی عورتوں کے چہرے اور پیٹ

پر ہاتھ پھیرتے تھے؟

۱۵۳) زکریا دیوبندی نے لکھا ہے:

”شیخ ابو یعقوب سُوسُو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مرجاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا۔“ (فضائل صدقات حصہ دوم ۶۵۸/۳۰۰)

کس آیت سے ثابت ہے کہ صوفیاء اور پیروں کے مریدوں کو اپنے مرنے کے صحیح وقت کا علم ہوتا ہے؟

۱۵۴) کس حدیث سے ثابت ہے کہ پیروں کے مریدوں کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کا صحیح وقت معلوم ہوتا ہے؟

۱۵۵) کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مرید کو اپنے مرنے کے صحیح وقت کا پہلے سے علم ہوتا ہے؟

۱۵۶) زکریا تبلیغی نے حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی اور رائے پوری دونوں سے کہا:

”حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعثِ نجات اور فخر اور موجبِ عزت سمجھتا ہوں۔“ (آپ بیتی حصہ اول ص ۴۵۹، جلد ۴ ص ۸۸)

ٹانڈوی اور رائے پوری کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعثِ نجات، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۵۷) کس حدیث سے ثابت ہے کہ رائے پوری اور ٹانڈوی کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعثِ نجات ہے؟

۱۵۸) کیا امام ابو حنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ فلاں صوفی کی جوتیوں کی خاک کو سر پر ڈالنا باعثِ نجات ہے؟

۱۵۹) حسین بن منصور نامی ایک حلولی شخص اپنے آپ کو ”أنا الحق“ میں حق (خدا) ہوں، کہتا تھا، اس کے بارے میں زکریا نے کہا:

”دی گئی منصور کو پھانسی ادب کے ترک پر تھا انا الحق۔ حق مگر اک لفظ گستاخانہ تھا“

(ولی کامل از قلم عزیز الرحمن دیوبندی ص ۲۳۹)

یہ کہنا کہ میں خدا ہوں، اس کا حق ہونا کس آیت سے ثابت ہے؟

(۱۶۰) کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں؟

(۱۶۱) عاشق الہی دیوبندی نے نانوتوی اور گنگوہی وغیرہما کے بارے میں لکھا:

”اور جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے تا زیست خیر خواہ ہی ثابت رہے“ (تذکرۃ الرشید ج ۱ ص ۷۹)

انگریز ”سرکار“ کا خیر خواہ ہونا اور ساری زندگی اسی عقیدے پر ثابت رہنا کس آیت سے ثابت ہے؟

(۱۶۲) ساری زندگی انگریز سرکار (!) کا خیر خواہ رہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۶۳) ساری زندگی انگریز سرکار (!) کا خیر خواہ رہنا امام ابوحنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟

(۱۶۴) ماسٹر محمد امین اوکاڑوی دیوبندی نے لکھا:

”لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتنا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدھی بھی تھی دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی“ (غیر مقلدین کی غیر مستند نماز ص ۴۳، مجموعہ رسائل ج ۳ ص ۳۵۰ حوالہ نمبر ۱۹۸، تجلیات صفحہ ج ۵ ص ۲۸۸، شائع شدہ بعد از موت اوکاڑوی)

کس حدیث میں شرمگاہوں پر نظر پڑنے کا ذکر ہے؟ معاذ اللہ

(۱۶۵) کیا شرمگاہوں پر نظر پڑنے والی بات امام ابوحنیفہ سے بھی ثابت ہے؟

(۱۶۶) رشید احمد لدھیانوی نے کہا:

”اس لئے کہ ہم امام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں اور مقلد کے لئے قول امام حجت ہوتا ہے نہ

کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے“ (ارشاد القاری ج ۱ ص ۴۱۲)

یہ کہنا کہ مقلد کے لئے ادلہ اربعہ (قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد) حجت نہیں

بلکہ صرف قول امام حجت ہوتا ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۶۷) یہ عقیدہ رکھنا کہ مقلد کے لئے قرآن، حدیث اور اجماع حجت نہیں بلکہ صرف قول

امام حجت ہوتا ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۶۸) یہ کہنا کہ مقلد کے لئے قرآن، حدیث اور اجماع حجت نہیں بلکہ صرف قول امام

حجت ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ کے کس قول سے ثابت ہے؟

۱۶۹) صوفی عبدالحمید سواتی دیوبندی نے فوائد عثمانی نامی کتاب سے نقل کرتے ہوئے

بطور رضامندی لکھا ہے:

”الہی، حرمت حضرت خواجہ مشکل کشا سید الاولیاء سند الاتقیاء... پیر دستگیر حضرت مولانا محمد

عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ (فیوض حسینی ص ۶۸)

خواجہ محمد عثمان کو مشکل کشا اور پیر دستگیر کہنا کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۷۰) خواجہ محمد عثمان کو مشکل کشا اور پیر دستگیر کہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۷۱) کیا امام ابوحنیفہ بھی خواجہ محمد عثمان یا اس جیسوں کو مشکل کشا اور پیر دستگیر سمجھتے تھے؟

۱۷۲) تبلیغی جماعت کے بانی محمد الیاس دیوبندی نے ایک شخص کے نام خط میں لکھا:

”اور اگر حق تعالیٰ کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی

ذرہ نہیں مل سکتا۔ اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی

نہ ہو سکے۔“ (مکاتیب شاہ الیاس ص ۱۰۷، کارکنوں اور دوستوں کے نام)

یہ کہنا کہ دیوبندی تبلیغی جماعت سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جو نبیوں سے بھی نہ ہو سکے،

کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۷۳) یہ سمجھنا کہ دیوبندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے،

کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۷۴) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ دیوبندیوں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے لیتا ہے

جو نبیوں سے بھی نہ ہو سکے؟

۱۷۵) محمد تقی عثمانی دیوبندی نے تقلید کی حمایت کرتے ہوئے مقلد کے بارے میں کہا:



”چنانچہ اس کا کام صرف تقلید ہے، اور اگر اسے کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف نظر آئے تب بھی اُسے امام کا مسلک نہیں چھوڑنا چاہئے، بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ حدیث کا صحیح مفہوم یا اس کا صحیح مجمل میں سمجھ نہیں سکا“ (تقلید کی شرعی حیثیت طبع ششم ص ۹۲)

یہ کہنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہئے، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۷۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہئے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۷۷) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حدیث معلوم ہونے کے باوجود اپنا تقلیدی مسلک نہیں چھوڑنا چاہئے؟

۱۷۸) دیوبندیوں کے اکابر میں سے محمد احسن نانوتوی نے ۲۲/مئی ۱۸۵۷ء (جنگ آزادی کے دنوں میں) بریلی کی مسجد نوحہ میں مسلمانوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا: ”حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے“

(محمد احسن نانوتوی ص ۵۰، تصنیف محمد ایوب قادری دیوبندی)

انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۷۹) انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۸۰) کیا امام ابوحنیفہ سے ثابت ہے کہ انگریز حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے؟

۱۸۱) مظفر حسین کاندھلوی دیوبندی نے ایک خانصاحب سے نماز (پڑھنے) کے لئے

کہا تو اس نے جواب دیا: مجھے ڈاڑھی چڑھانے کی عادت ہے اور وضو سے یہ اتر جاتی ہے۔

مظفر حسین کاندھلوی نے کہا: ”بے وضو پڑھ لیا کرو“ (حکایات اولیاء ص ۲۱۷ حکایت نمبر ۱۹۲)

یہ کہنا کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو، کس آیت سے ثابت ہے؟

۱۸۲) یہ کہنا کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۱۸۳) کیا امام ابوحنیفہ سے بھی ثابت ہے کہ نماز بے وضو پڑھ لیا کرو؟

(۱۸۴) شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے لکھا:

”اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اُمتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں اُن کی صداقت و عدالت پر گواہ ہونگے“ (تفسیر عثمانی ص ۲۷، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۴۳، کے تحت، حاشیہ نمبر ۳) یہ کس آیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟

(۱۸۵) کس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟

(۱۸۶) کیا امام ابوحنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُمتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں؟

(۱۸۷) فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے ۱۸۵۷ء کی جنگِ آزادی کے موقع پر کہا:  
”لڑنے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں۔“

(حاشیہ سوانح قاسمی ج ۲ ص ۱۰۳، از مناظر احسن گیلانی)

خضر علیہ السلام کا انگریزوں کی صف میں ہونا کس آیت سے ثابت ہے؟

(۱۸۸) سیدنا خضر علیہ السلام کا انگریزوں کی صف میں پایا جانا کس حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۸۹) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام انگریزوں کی صف میں پائے جاتے ہیں؟

(۱۹۰) زکریا تبلیغی دیوبندی نے کہا:

”حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے صاحبزادے جناب حکیم معین الدین صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتہ میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔“

(آپ بیتی جلد ۲ ص ۱۱۲۳ حصہ ۶ ص ۳۰۹)

قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ یعقوب نانوتوی وغیرہ پیروں کی قبر کی مٹی سے

شفا ہو جاتی ہے؟

(۱۹۱) کس حدیث سے ثابت ہے کہ بیماری کے علاج کے لئے قبر کی مٹی لے جانے

سے شفا ہو جاتی ہے؟

(۱۹۲) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ قبر کی مٹی لے جانے سے شفا ہو جاتی ہے؟

(۱۹۳) ایک شخص نے خواب دیکھا کہ رشید احمد لدھیانوی دیوبندی کے دارالافتاء

والا ارشاد میں صدر امریکہ ریگن (عیسائی، کافر) آیا ہے حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا، لدھیانوی

دیوبندی نے بہت محبت کے ساتھ ریگن سے معانقہ کیا پھر اس سے امامت کے لئے کہا، اس

کے بعد رشید احمد لدھیانوی نے بنظر غائر ریگن کی صورت دیکھ کر کہا: ”یہ صورت نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کی صورت کی شبیہ ہے“ (رشید احمد کی کتاب انوار الرشید طبع اول ۱۴۰۲ھ ص ۲۴۶)

ریگن کافر کی مکروہ صورت کو افضل البشر سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے

تشبیہ دینا کس آیت سے ثابت ہے؟

(۱۹۴) ریگن کافر کی مکروہ صورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے تشبیہ دینا کس

حدیث سے ثابت ہے؟

(۱۹۵) کیا امام ابوحنیفہ اُس شخص کو مسلمان سمجھتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ فلاں کافر کی صورت

سید البشر سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہی و اُمی و رُوحی کی صورت مبارکہ کی شبیہ ہے؟

یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(۱۹۶) اشرفی تھانوی کے پردادا کسی بارات میں مارے گئے تھے، ان کے بارے میں

عزیز الحسن مجذوب نے لکھا: ”شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے

گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی

سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے لیکن اُن کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ

گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں اس لئے ظاہر

کر دیا اور پھر آپ تشریف نہیں لائے۔“ (اشرف السوانح ج ۱ ص ۱۵)

مارے جانے والے شخص کا مرنے کے بعد اپنے گھر آنا اور مٹھائی لانا کس آیت سے

ثابت ہے؟

(۱۹۷) مارے جانے والے شخص کا موت کے بعد اپنے گھر آنا اور مٹھائی لانا، کس حدیث

سے ثابت ہے؟

(۱۹۸) کیا امام ابوحنیفہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مارا جانے والا شخص مرنے کے بعد اپنے گھر

آتا ہے اور مٹھائی لاتا ہے؟

(۱۹۹) ابو بلال محمد اسماعیل جھنگوی دیوبندی نے کہا: ”نماز میں اقعاء کرنا خود رسول پاک

صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے (ترمذی ج ۱ ص ۳۸۔ ابو داؤد جلد ۱ ص ۱۲۳) لیکن مسلم

شریف ج ۱ ص ۱۹۵ پر اسے عقبۃ الشیطان کہا گیا ہے۔“ (تحفۃ اللمحدیث حصہ ۲ ص ۱۲۱)

جھنگوی نے مزید کہا: ”دیکھیں اپنے کیے ہوئے فعل کو عقبۃ شیطان کہا جا رہا ہے۔“

(تحفۃ اللمحدیث حصہ ۲ ص ۱۲۱)

رسول اللہ ﷺ نے جس اقعاء (عقبۃ الشیطان / کتے کی طرح بیٹھنے) سے منع فرمایا

تھا، کس حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے بھی یہ فعل کیا تھا؟

تنبیہ: رسول اللہ ﷺ سے جو اقعاء ثابت ہے وہ دوسرا ہے جس میں بیمار کے لئے

حالت تشہد میں بیٹھنا جائز ہے لیکن آپ نے جس اقعاء سے منع فرمایا تھا وہ دوسرا اقعاء (کتے

کی طرح بیٹھنا) ہے، آپ ﷺ کے فعل سے یہ دوسرا اقعاء قطعاً ثابت نہیں ہے۔

نیز دیکھئے تلقی عثمانی کی کتاب: درس ترمذی (ج ۲ ص ۵۳)

(۲۰۰) محمد حسین نیلوی دیوبندی نے الزامی اعتراض کرتے ہوئے کہا:

”ایسے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ جب بھی اسے

کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچتا اللہ تعالیٰ سے رور و کر دعائیں کرتا۔“

(مظلوم کربلا ص ۱۰۰)

عرض ہے کہ وہ کون سی دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ

سے ڈاڑھی منڈا جنرل ضیاء الحق (جس کے دور میں انسانوں کے خود ساختہ وضعی قوانین بزورِ حکومت نافذ تھے۔) ہی اچھا رہا!؟

۲۰۱) اشرف علی تھانوی نے ابن عربی صوفی (نکرہ) کو شیخ اکبر کے لقب سے یاد کرتے ہوئے کہا: ”اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ اکبر کا کشف جناب رسول اللہ ﷺ کے کشف سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جس امر کے وقوع کی اطلاع دی ہے مع سن و سال اطلاع دی ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے واقعات آئندہ کی جو خبر دی ہے تو اس تفصیل سے نہیں خبر دی لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کیونکہ حضرت شیخ کا علم لوح محفوظ سے مستفاد ہے اور لوح محفوظ میں سنہ و سال سب تحریر ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم لوح محفوظ کو قطع کر کے حق تعالیٰ کے علم ذات والا صفات تک پہنچ گیا ہے اور وہاں سن و سال کچھ بھی نہیں سب زمانے برابر ہیں“ (تقریر ترمذی ص ۶۱۶، ۶۱۷، سورۃ الکہف)

یہ عقیدہ رکھنا کہ ابن عربی صوفی کا کشف سیدنا رسول اللہ ﷺ کے کشف سے بڑھا ہوا ہے اور ابن عربی کا علم لوح محفوظ سے مستفاد ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟  
تنبیہ: ابن عربی اور ابن العربی دو مختلف فرد تھے، اسے خوب یاد رکھیں۔

۲۰۲) یہ سمجھنا کہ ابن عربی صوفی کا کشف سیدنا رسول اللہ ﷺ کے کشف سے بڑھا ہوا تھا اور ابن عربی کا علم لوح محفوظ سے مستفاد ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۲۰۳) کیا امام ابو حنیفہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ابن عربی یا ایسے لوگوں کا علم لوح محفوظ سے مستفاد ہے اور ابن عربی صوفی کا کشف سیدنا رسول اللہ ﷺ کے کشف سے بڑھا ہوا ہے؟

۲۰۴) اشرف علی تھانوی نے پاگل مجذوبوں کے بارے میں کہا:

”مجازیب یہاں بیٹھے ہیں اور کلکتہ کی اُن کو خبر ہے“ (تقریر ترمذی طبع ۱۳۱۶ھ ص ۶۱۶)

یہ سمجھنا کہ مجذوب (پاگل دیوانے) دُور بیٹھے ہوتے ہیں اور کلکتہ کی اُن کو خبر ہوتی ہے، کس آیت سے ثابت ہے؟

۲۰۵) یہ کہنا کہ مجزوب دُور بیٹھے ہوتے ہیں اور کلکتہ کی اُن کو خبر ہوتی ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۲۰۶) یہ عقیدہ رکھنا کہ مجزوب یہاں بیٹھے ہیں اور کلکتہ کی اُن کو خبر ہے، امام ابوحنیفہ کے کس مفتی یہ قول سے ثابت ہے؟

۲۰۷) اشرفعلی تھانوی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو ”غوث الاعظم“ کے لقب سے یاد کرتے ہوئے کہا:

”ایک دن حضرت غوث الاعظم سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اُس کو غرق ہونے بچالیا۔۔۔“ (امداد المشاق ص ۲۴ فقرہ ۱۹)

یہ سمجھنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ غوث الاعظم (سب سے بڑے فریادرس) تھے اور آپ نے توجہ باطنی سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا، کس آیت سے ثابت ہے؟

۲۰۸) یہ عقیدہ رکھنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم تھے اور آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا، کس حدیث سے ثابت ہے؟

۲۰۹) کیا امام ابوحنیفہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم ہیں اور انھوں نے ہمت و توجہ باطنی سے غرق ہونے والے جہاز کو بچالیا؟

۲۱۰) اشرفعلی تھانوی نے ”بزرگوں“ کے ”خاص برکات یعنی تصرفات“ کے ذکر پر کہا:

”اس باب میں ارواح کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں بعض کو تصرف عطا ہوتا ہے بعض کو نہیں جیسے ملائکہ کی حالت ہے کہ بعض کے سپرد تو تربیہ مخلوق کے متعلق خاص خاص خدمتیں ہیں اور بعض کا کام سوائے ذکر و عبادت کے اور کچھ نہیں۔“

(الافاضات الیومیہ من الافادات القومیہ ج ۱۰، ص ۱۰۷، لفظ ۸۷)

یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض ارواح کو تصرف عطا ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ کے کس مفتی یہ قول سے ثابت ہے؟ (ختم شد)

[۱۹/ دسمبر ۲۰۰۸ء]